

## علاقائی حکومتوں کے جائزہ کے دوران عوام کی جانب سے فیڈبیک کی ضرورت ہے

برامپٹن، آن (17 اپریل 2019) - ریجن آف پیل کی میونسپلٹیوں کی ساخت کے بارے میں صوبہ ایک جائزہ لے رہا ہے۔ اس موضوع پر لوگوں کے احساسات کو سمجھنے کے حوالے سے برامپٹن چاہتا ہے کہ اس کے رہائشی اور کاروباری ادارے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ شہر کو آگے لے جانے کے لیے بہتری طریقہ کون سا ہو سکتا ہے۔

اس سال کے آغاز میں، صوبہ اونٹیریو نے علاقائی حکومتوں کا جائزہ لینے کا آغاز کیا تھا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ علاقائی حکومتیں ممکنہ حد تک مؤثر اور کارگر طریقے سے کام کرتی ہوں اور جن ضروری سروسز پر کمیونٹی انحصار کرتی ہے وہ سروسز انہیں تسلسل کے ساتھ فراہم کی جا رہی ہوں۔

ریجن آف پیلز کی تین میونسپلٹیز میں برامپٹن کا شمار بھی ہوتا ہے۔ علاقائی سطح پر جن انتخابات پر بات چیت ہو رہی ہے، وہ یہ ہیں کہ آیا تینوں میونسپلٹیوں کو باہم جوڑ کر ایک خود مختار شہر (یعنی ریجن کو توڑ دیا جائے) کی شکل دے کر ایک بڑا شہر بنا دیا جائے یا نہیں یا پھر موجودہ ساخت کو ہی بحال رکھا جائے۔

برامپٹن کے رہائشیوں کے پاس اپنی فیڈبیک فراہم کرنے کے لیے کئی طریقے موجود ہیں۔ رہائشیوں کی جانب سے موصول ہونے والی تمام فیڈبیک کی مدد سے صوبائی مشاورت کے دوران برامپٹن سٹی کونسل کے ممبران ریجنل کونسل میں اور دیگر اہم مواقع پر مطلع شدہ فیصلے کر سکیں گے۔

### اپنی رائے دیں

- مورخہ 24 اپریل کو شام 7 بجے ایک ٹیلیفون ٹاؤن ہال کا بندوبست کیا جائے گا، جس میں ممبران کو ایک بے ترتیب طریقے سے کال کیا جائے گا، جو خواتین و حضرات کالر لسٹ میں اپنا نام شامل کروانا چاہیں، وہ 24 اپریل کو دن 12 بجے تک [آن لائن](#) سائن اپ کر سکتے ہیں۔
- سٹی ہال میں 4 مئی کو دن 3 بجے ایک ٹاؤن ہال میٹنگ میں شرکت کریں۔ وہ لوگ جو اس میٹنگ کے دوران اپنی رائے دینا چاہتے ہوں یا سوالات پوچھنا چاہتے ہوں، تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ 3 مئی کو شام 4:30 تک [cityclerksoffice@brampton.ca](mailto:cityclerksoffice@brampton.ca) پر ای میل کر کے رجسٹر کروا لیں۔
- ٹاؤن ہال کی میٹنگ کو فیس بُک پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا اور اُس وقت کے دوران بھی سوالات جمع کروائے جا سکیں گے۔
- آپ 21 مئی تک [صوبہ اونٹیریو کے سروے](#) کو آن لائن طور بھی مکمل کر سکتے ہیں۔

### اقتباس

"علاقائی حکومتی جائزے کے دوران کئی انتخابات پر غور کیا جائے گا اور ہم اپنے ٹیکس گزاروں کے لیے منصفانہ فیصلوں کے متمنی ہیں۔ میں برامپٹن کے رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اس نہایت اہم جائزہ میں ضرور حصہ لیں جس کی وجہ سے شہر کے انتظام و انصرام پر بہت بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ برامپٹن کا شمار آج کینیڈا کے سب سے تیزی سے فروغ پانے والے دوسرے شہر کے طور پر ہوتا ہے اور ریجن آف پیل میں منتقل ہونے والے لوگوں میں سے تقریباً 80 فیصد کا انتخاب برامپٹن کو اپنا گھر بنانا ہوتا ہے۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ برامپٹن کے رہائشیوں پر اثر انداز ہونے والے فیصلوں کی میز پر ہماری ایک مضبوط آواز موجود ہو۔"

- میئر پیٹرک براؤن

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)